

Q.7 Translate the following passage into English keeping in view figurative/ idiomatic expressions. (10)

آج کے دور کے انسان بے ترقی کا بوجھت سہا ہے۔ اسے ایک دن لے لے لے گا۔ انسان بڑوں بڑوں ترقی کر رہا ہے لوگوں میں بے چینی، تانا اور ڈہنی انتشار کا نشانہ ہو رہا ہے۔ انسان مشینوں کا نام نہن کر رہا گیا ہے۔ جتنی تیزی سے انسان نے مادی ترقی کی ہے اسی رفتار سے اور اعلیٰ طور پر ذوال کا بنکار ہوا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہر کام مشین کر رہی ہے پھر بھی انسان کے پاس وقت نہیں ہے۔ لی۔ ایس۔ ایٹ نے کہا تھا کہ جدید دور کا انسان ایک شخص بھرا پتا ہے اور جدید دور دنیا بھر ویران ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں جدید انسان کی زندگی بے نراوح اور گراہکنی ہے۔

(9)

Q No 7

Ans :

(Translation)

Human's dream of great development will lead to his own downfall, one day. Irritation, stress and mental disturbance are increasing with increase in development. Human has been slave to machines. As just the human has got successful in development as he has lost his spiritual life. Unsurprisingly, every task is being performed by machines still human has no time. T.S. Eliot said, "Modern people are like statues and modern world is like a desert." No doubt, life of modern people has been spiritless.